



## کیا آپ کو مدد درکار ہے؟ ہم مدد کرنے کے لئے یہاں موجود ہیں۔

کسٹمر سروس سنٹر - اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے، بذریعہ فون یا بالمشافہ، آپ کا رابطے کا پہلا مقام 1300-228-703 پر ہمیں کال کریں یا Washington Blvd., Arlington, VA 22204 2100 پر ہم سے ملاقات کریں۔

کمیونٹی اور رہائش کی معاونت - ان خدمات میں کرائے کے معاونتی پروگرام اور بے دخلی سے بچاؤ کی خدمات، خدمات منقطع ہونے سے بچاؤ کے لئے بوٹیلٹی کی معاونت، اور ادویہ کے لئے ادائیگیاں شامل ہیں۔ براہ کرم نوٹ کر لیں، خدمات اہلیت کی بناء پر دی جاتی ہیں۔

ملازمت کی خدمات - <https://jobboard.arlingtonva.us> پر جاب فیئر کی معلومات تک رسائی، کیریئر کے جائزے کی معاونت، کمپیوٹرز اور پرنٹرز، Microsoft Word اور Excel کے ٹیوٹوریلز، کیریئر کی تیاری کروانے کی ورک شاپس، اور دستیاب ملازمتیں تلاش کریں۔

افراد کی قوت کی تربیت - "دیگر زبانیں بولنے والوں کے لئے انگریزی" کی کلاسوں کے لئے سکالرشپس اور دیگر ملازمتی تربیتی پروگرامز۔

بے سروسامانی اور پناہ گاہ کی خدمات - آرلنگٹن کاؤنٹی کے بے سروسامانی کے شکار رہائشیوں کے لئے افراد اور خاندانوں کی خاطر محفوظ پناہ گاہ۔

Medicaid - تمام عمروں کے مستند کم آمدنی والے رہائشیوں کے لئے صحت کی انشورنس۔

ریئل اسٹیٹ ٹیکس میں سہولت - ٹیکس میں چھوٹ کے لئے استثنائی صورتیں اور کم اور درمیانی آمدنی والے ان گھریلو مالکان کے لئے التوا کی مہلتیں جو 65 سال کی عمر کے ہیں یا اس سے زائد العمر ہیں یا مستقل طور پر معذوری کا شکار ہیں۔

کمیونٹی روابط کا پروگرام - کمیونٹی میں انواع و اقسام کی خدمات اور وسائل کی معاونت فراہم کرتا ہے۔ کمیونٹی کی ضروریات کی بنیاد پر تقریبات اور کلاسز کو نیز جاری و ساری خدمات کو نئے آنے والوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ روابط کے ماہرین کثیر الثقافتی اور کثیر لسانی ہیں اور متعدد رکاوٹوں میں آرلنگٹن کے رہائشیوں کی مدد کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ عملہ کھانے اور ڈانپرز کے بینکس، درخواست میں معاونت، اور دستاویزی خدمات کے لئے ریفرلز فراہم کرتا ہے۔

عوامی معاونت - کمیونٹی کے حفاظتی جال کے پروگرامز تاکہ قابل مدتی اور / یا عارضی ضروریات میں مدد کی جائے جن میں خوراک کی معاونت، مالی معاونت، بوٹیلٹی کی معاونت، طبی نگہداشت اور طفلی نگہداشت شامل ہو سکتی ہے۔ یہ پروگرامز بچوں، خاندانوں اور افراد کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔ عوامی معاونت کے تمام پروگرامز کے پاس مالی اور غیر مالی اہلیت کی رہنما ہدایات موجود ہیں۔ بالمشافہ 2100 Washington Blvd., Arlington, VA, <https://www.commonhelp.virginia.gov> پر یا 4370-635-855 پر درخواست دیں۔

غذائیت میں اضافی معاونت کا پروگرام (SNAP) - خوراک کی خریداری کے لئے مالی معاونت۔

ضرورت مند خاندانوں کے لئے عارضی معاونت (TANF) - ان خاندانوں کی مالی معاونت جن کی آمدنی اس قدر کم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔

### مزید جانیں

Arlington Department of  
Human Services  
, Washington Blvd 2100  
Arlington VA 22204  
[www.arlingtonva.us/dhs](http://www.arlingtonva.us/dhs)

### پارکنگ

سیکویا پلازا (Sequoia Plaza) پر موجودگی کے دوران DHS مہمانوں کے لئے (نیلی سطح کے) گیراج میں مفت پارکنگ دستیاب ہے۔ اگر گیراج بھر چکا ہو، تو گلی کی پارکنگ استعمال کریں۔

گاڑی پر مفت نقل و حمل کے

اختیارات:

ART 42، ART 45، ART 77

فون:

1300-228-703

TTY 1398-228-703

آرلنگٹن کاؤنٹی، قابل اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی پاسداری کرتی ہے اور نسل، رنگت، قومیتی حسب نسب، عمر، معذوری، یا جنس کی بنیادوں پر امتیازی سلوک نہیں کرتی ہے۔ درخواست کرنے پر زبان کی خدمات دستیاب ہیں۔



**ARLINGTON**  
VIRGINIA  
Human Services